

145144- قسم اٹھانی کہ بیوی اگر چاہے تو وہ طلاق دے دیگا بیوی کہنے لگی میں طلاق چاہتی ہوں

سوال

میں اللہ کی قسم اٹھانی کہ اگر بیوی چاہے تو میں اسے طلاق دے دوںگا، تو بیوی نے غصہ میں کہا: میں طلاق چاہتی ہوں، برائے مہربانی یہ بتائیں کہ اس قسم کا کفارہ کیا ہے؟

پسندیدہ جواب

جب آپ نے یہ قسم اٹھانی کہ اگر بیوی چاہے تو میں اسے طلاق دے دوںگا، اور بیوی نے بتایا کہ وہ طلاق چاہتی ہے، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، اور نہ ہی آپ پر لازم ہوگا کہ آپ بیوی کو طلاق دیں، کیونکہ شریعت مطہرہ میں طلاق دینا مکروہ ہے۔

لیکن آپ پر قسم کا کفارہ لازم آتا ہے، اور قسم کا کفارہ یہ ہے کہ: ایک غلام آزاد کیا جائے، یا پھر دس مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا انہیں لباس مہیا کیا جائے، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھے تو وہ تین روزے رکھے گا۔

یہ کلام شرط پر معلق طلاق میں شامل نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو طلاق کے وعدہ میں شامل ہوتی ہے کہ اگر بیوی چاہے تو طلاق دینے کا وعدہ کیا گیا ہے، اگر کوئی کہے کہ: اگر تم چاہو تو تمہیں طلاق، اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں طلاق دے دوںگا تو اس میں فرق یہ ہے کہ پہلی کلام میں طلاق کا وعدہ نہیں لیکن دوسری کلام میں طلاق کا وعدہ کیا گیا۔

طلاق کے الفاظ کو استعمال کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس میں سستی و کاہلی نہیں کرنی چاہیے؛ کیونکہ ہوسکتا ہے معاملہ طلاق واقع ہونے تک پہنچ جائے اور خاندان کا شیرازہ بکھر جائے۔

واللہ اعلم۔